

## 21241 - وضوء میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم

### سوال

وضوء میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے ؟

### پسندیدہ جواب

الحمد لله.

وضوء میں بسم اللہ پڑھنے کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے:

امام احمد کے ہاں بسم اللہ واجب ہے، ان کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضوء ہی نہیں "

سنن ترمذی حدیث نمبر ( 25 ) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے، المغنی ابن قدامہ ( 1 / 145 ) بھی دیکھیں.

اور جمہور علماء کرام جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور امام شافعی رحمہم اللہ اور امام احمد کی ایک روایت شامل ہے کہ بسم اللہ وضوء کی سنن میں شامل ہے واجب نہیں.

انہوں نے عدم وجوب پر درج ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے:

1 - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضوء کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

تم وضوء اس طرح کرو جس طرح تجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے "

سنن ترمذی حدیث نمبر ( 302 ) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر ( 247 ) میں اسے صحیح قرار دیا ہے.

اور یہ درج ذیل فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے:

اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوؤ تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھویا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر طہارت کرو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا تم میں سے کوئی ایک پاخانہ کرے یا پھر بیوی سے جماع کرے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرلو، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کرنی چاہتا ہے، تا کہ تم شکر کرو المائدة ( 6 ) .

اور اس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔

دیکھیں: المجموع للنووی ( 1 / 346 ) .

اس حدیث کو ابو داؤد نے ان الفاظ سے بھی مکمل الفاظ میں روایت کیا ہے، اور اس میں عدم وجوب کی واضح دلیل ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" تم میں سے کسی کی بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضوء نہ کر لے، جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، چنانچہ وہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، اور سر کا مسح کرے، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے... " الحدیث

سنن ابوداؤد حدیث نمبر ( 856 ) .

یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، جو اس کی دلیل ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں۔

دیکھیں: السنن الكبرى للبيهقي ( 1 / 44 ) .

2 - بہت سے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کا طریقہ بیان کیا ہے انہوں نے بسم اللہ کا ذکر نہیں، اگر واجب ہوتی تو اسے لازمی بیان کیا جاتا۔

دیکھیں: الشرح الممتع ( 1 / 130 ) .

بہت سے حنابلہ نے جن میں خرقی اور ابن قدامہ شامل ہیں یہی قول اختیار کیا ہے۔

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ ( 1 / 145 ) الانصاف ( 128 ) .

اور معاصر علماء میں سے محمد بن ابراہیم اور محمد بن عثمان رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔

دیکھیں: فتاویٰ الشیخ محمد بن ابراہیم ( 2 / 39 ) الشرح الممتع ( 1 / 130 ، 300 )۔

بسم اللہ کو واجب قرار دینے والوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے انہوں نے اس کا جواب دو طرح دیا ہے:

پہلا:

یہ حدیث ضعیف ہے۔

علماء کی ایک جماعت جن میں امام احمد، بیہقی، نووی اور بزار شامل ہیں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ سے وضوء میں بسم اللہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، اور نہ ہی مجھے اس مسئلہ میں کسی ایسی حدیث کا علم ہے جس کی سند  
جید ہو۔ اھ

المغنی ابن قدامہ ( 1 / 145 )۔

دیکھیں: السنن الكبرى للبيهقي ( 1 / 43 ) المجموع للنووي ( 1 / 343 ) تلخيص الحبير ( 1 / 72 )۔

دوسرا جواب:

اگر حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ: اس کا وضوء مکمل نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا وضوء  
بسم اللہ کے بغیر صحیح نہیں ہے۔

دیکھیں: المجموع للنووي ( 1 / 347 ) اور المغنی ابن قدامہ ( 1 / 146 )۔

اس بنا پر۔ اگر۔ حدیث صحیح ہو تو یہ بسم اللہ کی استحباب پر دلالت کرتی ہے نہ کہ وجوب پر۔ واللہ اعلم۔

اس لیے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھے بغیر وضوء کرے تو اس کا وضوء صحیح ہے، لیکن اسے اس سنت پر عمل  
کرنے کا ثواب حاصل نہیں ہوا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ انسان وضوء سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ترک نہ کرے۔

واللہ اعلم .